



تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس طرح کاٹنا جس طرح کوئی سانڈ کاٹتا ہے، (جاؤ) تمہارے لئے کوئی دیت نہیں ہے

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کو (دانتوں سے) کاٹ لیا، تو اس نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کے اگلے دانت ٹوٹ کر گر گئے وہ دونوں یہ جھگڑا لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس طرح کاٹتا ہے جس طرح کوئی سانڈ کاٹتا ہے؛ (جاؤ) تمہارے لئے کوئی دیت نہیں ہے“
[صحیح] [متفق علیہ]

ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر حملہ آور ہو کر اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا جس شخص کے ہاتھ پر کاٹا گیا تھا اس نے کاٹنے والے کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے سامنے کے دو دانت گر گئے دونوں اپنا مقدمہ نبی کے پاس لے کر آئے دانت کاٹنے والا اپنے گر جانے والے دونوں دانتوں کی دیت مانگ رہا تھا، جب کے جس کے ہاتھ پر کاٹا گیا تھا وہ اپنے دفاع میں یہ دلیل دے رہا تھا کہ اس نے تو اپنے ہاتھ کو اس کے دانتوں کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا تھا نبی نے دانت کاٹنے والے مدعی پر نکیر کی کہ اس نے کیسے ایسا عمل کیا جسے اکھڑ (اجڈ) جانور کرتے ہیں؟ اور فرمایا: تم میں سے ایک شخص اپنے بھائی کو دانت کاٹتا ہے اور پھر زیادتی کا مرتکب ہونے والا اپنے دانتوں کی دیت کا مطالبہ کرنے کے لئے آجاتا ہے؟! تمہارے لئے کوئی دیت نہیں ہے؛ کیونکہ آغاز کرنے والا ہی جرح اور زیادتی کرنے والا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2950>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

